

قرآنی عربی پروگرام



اس ماڈیول کے اختتام پر ان شاء اللہ آپ عربی گرامر کی بنیادی باتیں
سیکھ چکے ہوں گے۔

ماڈیول AG01: بنیادی عربی گرامر۔ حصہ اول

جوابات

محمد مبشر نذیر۔ محمد شکیل عاصم

www.islamic-studies.info

| صفحہ | عنوان |
|------|--|
| 3 | سبق 1: بنیادی عربی گرامر |
| 4 | سبق 2: تذکیر و تانیث (Masculine and Feminine) |
| 8 | سبق 3: رفع، نصب اور جر (Subjective, Objective and Possessive Case) |
| 9 | سبق 4: واحد، تثنیہ، جمع (Singular and Plural) |
| 13 | سبق 5: اسم ضمیر (Pronouns) |
| 22 | سبق 6: اسم اور فعل کی اقسام |

اپنے جوابات چیک کیجیے!

ہر لفظ کا ایک نمبر ہے۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹسٹ دوبارہ کیجیے۔

| لفظ | قسم | لفظ | قسم |
|------------|-----|--------------|-----|
| اللہ | اسم | ل | حرف |
| أَكْبَرُ | اسم | أَعُوذُ | فعل |
| سُبْحَانَ | اسم | بِ | حرف |
| ال | حرف | مِنْ | حرف |
| حمد | اسم | الشَّيْطَانِ | اسم |
| ل | حرف | الرَّحِيمِ | اسم |
| لَا | حرف | إِسْمِ | اسم |
| الہ | اسم | الرَّحْمَنِ | اسم |
| إِلَّا | حرف | الرَّحِيمِ | اسم |
| مُحَمَّدٌ | اسم | أَحَدٌ | اسم |
| رَسُولٌ | اسم | و | حرف |
| شَرِيكَ | اسم | الصَّمَدُ | اسم |
| كِ | اسم | عَلَى | حرف |
| اللَّهُمَّ | اسم | آل | اسم |
| صَلِّ | فعل | ه | اسم |

اپنے جوابات چیک کیجیے! (۱)

ہر لائن کا ایک نمبر ہے۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹیسٹ دوبارہ کیجیے۔

| لفظ | معنی | مذکر یا مؤنث؟ |
|-----------|--------------------|---------------|
| أَخٌ | بھائی | مُذَكَّرٌ |
| أُخْتٌ | بہن | مُؤنَّثٌ |
| وَالِدٌ | باپ | مُذَكَّرٌ |
| وَالِدَةٌ | ماں | مُؤنَّثٌ |
| أَبٌ | باپ | مُذَكَّرٌ |
| أُمٌّ | ماں | مُؤنَّثٌ |
| خَالَ | ماموں | مُذَكَّرٌ |
| خَالَةٌ | خالہ | مُؤنَّثٌ |
| عَمٌّ | چچا | مُذَكَّرٌ |
| عَمَّةٌ | پھوپھی | مُؤنَّثٌ |
| فَاسِقٌ | گناہ گار، بد کردار | مُذَكَّرٌ |
| فَاسِقَةٌ | گناہ گار، بد کردار | مُؤنَّثٌ |
| حَسَنٌ | نیک | مُذَكَّرٌ |
| حَسَنَةٌ | نیک | مُؤنَّثٌ |

| لفظ | معنی | مذکر یا مؤنث؟ |
|------------|---------|---------------|
| قَبِيحٌ | بد صورت | مُذَكَّرٌ |
| قَبِيحَةٌ | بد صورت | مُؤَنَّثٌ |
| كَبِيرٌ | بڑا | مُذَكَّرٌ |
| كَبِيرَةٌ | بڑی | مُؤَنَّثٌ |
| صَغِيرٌ | چھوٹا | مُذَكَّرٌ |
| صَغِيرَةٌ | چھوٹی | مُؤَنَّثٌ |
| هَذَا | یہ | مُذَكَّرٌ |
| هَذِهِ | یہ | مُؤَنَّثٌ |
| جَنَّةٌ | باغ | مُؤَنَّثٌ |
| جَهَنَّمَ | جہنم | مُؤَنَّثٌ |
| عَرِيْسٌ | دولہا | مُذَكَّرٌ |
| عَرُوسٌ | دولہن | مُؤَنَّثٌ |
| شَدِيدٌ | سخت | مُذَكَّرٌ |
| شَدِيدَةٌ | سخت | مُؤَنَّثٌ |
| سُوْقٌ | بازار | مُؤَنَّثٌ |
| طَوِيْلَةٌ | لمبی | مُؤَنَّثٌ |

| لفظ | معنی | مذکر یا مؤنث؟ |
|-----------|-------------------|---------------|
| أَصْفَرُ | پیلا | مُذَكَّرٌ |
| صَفْرَاءُ | پیلی | مُؤنَّثٌ |
| أَخْضَرُ | سبز | مُذَكَّرٌ |
| خَضْرَاءُ | سبز | مُؤنَّثٌ |
| أَحْمَرُ | سرخ | مُذَكَّرٌ |
| حَمْرَاءُ | سرخ | مُؤنَّثٌ |
| أَزْرَقُ | نیلا | مُذَكَّرٌ |
| زَرْقَاءُ | نیلی | مُؤنَّثٌ |
| أَجْمَلُ | خوبصورت ترین | مُذَكَّرٌ |
| جُمْلَى | خوبصورت ترین | مُؤنَّثٌ |
| صَادِقٌ | سچا | مُذَكَّرٌ |
| صَادِقَةٌ | سچی | مُؤنَّثٌ |
| شَاهِدٌ | گواہ، دیکھنے والا | مُذَكَّرٌ |
| شَاهِدَةٌ | گواہ، دیکھنے والی | مُؤنَّثٌ |
| كَاذِبٌ | جھوٹا | مُذَكَّرٌ |
| كَاذِبَةٌ | جھوٹی | مُؤنَّثٌ |

اپنے جوابات چیک کیجیے! (۲)

ہر لفظ کا ایک نمبر ہے۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹسٹ دوبارہ کیجیے۔

| مؤنث | مذکر | مؤنث | مذکر |
|-------|----------|-------|----------|
| سوداء | أَسْوَدُ | حسنة | حَسَنٌ |
| خضراء | أَخْضَرُ | والدة | وَالِدٌ |
| بيضاء | أَبْيَضُ | صفراء | أَصْفَرُ |
| أخت | أَخٌ | قبيحة | قَبِيحٌ |
| زرقاء | أَزْرَقُ | شاهدة | شَاهِدٌ |
| خالة | خَالٌ | حمراء | أَحْمَرُ |
| كبيرة | كَبِيرٌ | حسنة | حَسَنٌ |
| أُمٌّ | أَبٌ | صغيرة | صَغِيرٌ |
| هذه | هَذَا | جُملى | أَجْمَلٌ |
| شديدة | شَدِيدٌ | عمّة | عَمٌّ |
| زاهدة | زَاهِدٌ | صادقة | صَادِقٌ |
| فاسقة | فَاسِقٌ | كاذبة | كَاذِبٌ |
| رحيمة | رَحِيمٌ | عُروس | عُرَيْسٌ |
| زعيمة | زَعِيمٌ | عابدة | عَابِدٌ |
| كريمة | كَرِيمٌ | نصيرة | نَصِيرٌ |

اپنے جوابات چیک کیجیے!

ہر لائن کے تین نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹسٹ دوبارہ کیجیے۔

| جَرّ Possessive | نَصَبُ Objective | مَعْنَى Meanings | رَفْعُ Subjective |
|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| مُحَمَّدٍ | مُحَمَّدًا | محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم | مُحَمَّدٌ |
| رَسُولٍ | رَسُولًا | کوئی رسول، کوئی پیغمبر | رَسُولٌ |
| الرَّسُولِ | الرَّسُولَ | خاص رسول | الرَّسُولُ |
| شَيْءٍ | شَيْئًا | کوئی سی چیز | شَيْءٌ |
| الشَّيْءِ | الشَّيْئًا | مخصوص چیز | الشَّيْءُ |
| آيَةٍ | آيَةً | کوئی سی نشانی | آيَةٌ |
| الآيَةِ | الآيَةَ | مخصوص نشانی | الآيَةُ |
| جَنَّةٍ | جَنَّتًا | کوئی سا باغ | جَنَّةٌ |
| الجَنَّةِ | الجَنَّةَ | مخصوص باغ | الجَنَّةُ |
| بِنْتٍ | بِنْتًا | کوئی لڑکی، کوئی بیٹی | بِنْتُ |
| البِنْتِ | البِنْتَ | مخصوص لڑکی یا بیٹی | البِنْتُ |
| سَّمَاءٍ | سَّمَاءً | کوئی آسمان، کوئی بلندی | سَّمَاءٌ |
| السَّمَاءِ | السَّمَاءَ | خاص آسمان یا بلندی | السَّمَاءُ |

اپنے جوابات چیک کیجیے (۱) ہر لائن کے چار نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹسٹ دوبارہ کیجیے۔ نصب اور جر میں ایک ہی لفظ ہونے کی صورت میں ہم نے ایک ہی لفظ لکھا ہے جبکہ مختلف الفاظ ہونے کی صورت میں انہیں لائن لگا کر الگ الگ لکھا ہے۔

| جَمْع Plural | | تَشْنِيَةٌ Two / Pair | | مَعْنَى Meanings | وَاحِدٌ Singular |
|------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| نصب جر | رفع | نصب جر | رفع | | |
| مُسْلِمِينَ | مُسْلِمُونَ | مُسْلِمِينَ | مُسْلِمَانِ | مسلمان | مُسْلِمٌ |
| مُسْلِمَاتٍ | مُسْلِمَاتٌ | مُسْلِمَتَيْنِ | مُسْلِمَتَانِ | مسلم خاتون | مُسْلِمَةٌ |
| كُتُبًا كُتُبٍ | كُتُبٌ | كِتَابَيْنِ | كِتَابَانِ | کتاب | كِتَابٌ |
| مُتَّقِينَ | مُتَّقُونَ | مُتَّقِينَ | مُتَّقِيَانِ | پرہیزگار | مُتَّقِيٌّ |
| مُؤْمِنِينَ | مُؤْمِنُونَ | مُؤْمِنِينَ | مُؤْمِنَانِ | صاحب ایمان | مُؤْمِنٌ |
| أَعَظِمَ | أَعَظِمُ | عَظِيمَيْنِ | عَظِيمَانِ | سب سے عظیم | أَعْظَمُ |
| سُفَهَاءَ | سُفَهَاءٌ | سُفِهَيْنِ | سُفِهَانِ | بے وقوف | سُفِيهٌ |
| مُصْلِحِينَ | مُصْلِحُونَ | مُصْلِحِينَ | مُصْلِحَانِ | مصلح | مُصْلِحٌ |
| شَيَاطِينَ | شَيَاطِينُ | شَيْطَانَيْنِ | شَيْطَانَانِ | شیطان | شَيْطَانٌ |
| مُفْسِدِينَ | مُفْسِدُونَ | مُفْسِدِينَ | مُفْسِدَانِ | فساد پھیلانے والا | مُفْسِدٌ |
| ظُلَمَاتٍ | ظُلَمَاتٌ | ظُلَمَتَيْنِ | ظُلَمَتَانِ | تاریکی | ظُلْمَةٌ |
| صَوَاعِقَ | صَوَاعِقُ | صَاعِقَتَيْنِ | صَاعِقَتَانِ | آسمانی بجلی | صَاعِقَةٌ |
| جَنَّاتٍ | جَنَّاتٌ | جَنَّتَيْنِ | جَنَّتَانِ | باغ | جَنَّةٌ |

| جَمْع Plural | | تَشْنِيَةٌ Two / Pair | | مَعْنَى Meanings | وَاحِدٌ Singular |
|------------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| نصب جر | رفع | نصب جر | رفع | | |
| ضَالِيْنَ | ضَالُوْنَ | ضَالِيْنَ | ضَالَانِ | گمراہ | ضَالٌ |
| صَلَوَاتٍ صَلَوَاتٍ | صَلَوَاتٌ | صَلَاتِيْنَ | صَلَاتَانِ | نماز | صَلَوَةٌ |
| قُلُوْبًا قُلُوْبٍ | قُلُوْبٌ | قَلْبِيْنَ | قَلْبَانِ | دل | قَلْبٌ |
| أَمْرَاضًا أَمْرَاضٍ | أَمْرَاضٌ | مَرَضِيْنَ | مَرَضَانِ | مریض | مَرَضٌ |
| سُوْرًا سُوْرٍ | سُوْرٌ | سُوْرَتِيْنَ | سُوْرَتَانِ | سورت | سُوْرَةٌ |
| عَابِدِيْنَ | عَابِدُوْنَ | عَابِدِيْنَ | عَابِدَانِ | عبادت گزار | عَابِدٌ |
| أَنْهَارًا أَنْهَارٍ | أَنْهَارٌ | نَهْرِيْنَ | نَهْرَانِ | دریا، نہر | نَهْرٌ |
| آذَانًا آذَانٍ | آذَانٌ | أُذُنِيْنَ | أُذُنَانِ | کان | أُذُنٌ |
| أَمْثَالًا أَمْثَالٍ | أَمْثَالٌ | مَثَلِيْنَ | مَثَلَانِ | مثال | مَثَلٌ |
| عَذَابِيْنَ | عَذَابُوْنَ | عَذَابِيْنَ | عَذَابَانِ | عذاب، سزا | عَذَابٌ |
| أَصَاغِرًا أَصَاغِرٍ | أَصَاغِرٌ | صَغِيْرِيْنَ | صَغِيْرَانِ | چھوٹا | صَغِيْرٌ |
| غِشَاوَاتٍ | غِشَاوَاتٌ | غِشَاوَتِيْنَ | غِشَاوَاتَانِ | اندھیرا | غِشَاوَةٌ |
| فَاسِقِيْنَ | فَاسِقُوْنَ | فَاسِقِيْنَ | فَاسِقَانِ | گناہ گار | فَاسِقٌ |
| أَنْوَارًا أَنْوَارٍ | أَنْوَارٌ | نُوْرِيْنَ | نُوْرَانِ | روشنی | نُوْرٌ |

اپنے جوابات چیک کیجیے (۲) ہر لائن کے چار نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹسٹ دوبارہ کیجیے۔

| جَمْعٌ Plural | | تَثْنِيَّةٌ Two / Pair | | مَعْنَى Meanings | وَاحِدٌ Singular |
|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| نصب جر | رفع | نصب جر | رفع | | |
| مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ | مُسْلِمَاتٌ | مُسْلِمَتَيْنِ | مُسْلِمَتَانِ | مسلم خاتون | مُسْلِمَةٌ |
| عِبَادَاتٍ | عِبَادَاتٌ | عَابِدَتَيْنِ | عَابِدَتَانِ | عبادت گزار خاتون | عَابِدَةٌ |
| سَاجِدَاتٍ | سَاجِدَاتٌ | سَاجِدَتَيْنِ | سَاجِدَتَانِ | سجدہ کرنے والی | سَاجِدَةٌ |
| نَاضِرَاتٍ | نَاضِرَاتٌ | نَاضِرَتَيْنِ | نَاضِرَتَانِ | دیکھنے والی | نَاضِرَةٌ |
| صَائِمَاتٍ | صَائِمَاتٌ | صَائِمَتَيْنِ | صَائِمَتَانِ | روزہ رکھنے والی | صَائِمَةٌ |
| مُؤْمِنَاتٍ | مُؤْمِنَاتٌ | مُؤْمِنَتَيْنِ | مُؤْمِنَتَانِ | ایمان والی | مُؤْمِنَةٌ |
| ثِيَابٍ | ثِيَابٌ | ثِيَابَتَيْنِ | ثِيَابَتَانِ | شادی شدہ خاتون | ثِيَابَةٌ |
| قَانِنَاتٍ | قَانِنَاتٌ | قَانِنَتَيْنِ | قَانِنَتَانِ | جھکے ہوئے دل والی | قَانِنَةٌ |
| صَالِحَاتٍ | صَالِحَاتٌ | صَالِحَتَيْنِ | صَالِحَتَانِ | نیک خاتون | صَالِحَةٌ |
| صَادِقَاتٍ | صَادِقَاتٌ | صَادِقَتَيْنِ | صَادِقَتَانِ | سچی | صَادِقَةٌ |
| حَافِظَاتٍ | حَافِظَاتٌ | حَافِظَتَيْنِ | حَافِظَتَانِ | حفاظت کرنے والی | حَافِظَةٌ |
| صَابِرَاتٍ | صَابِرَاتٌ | صَابِرَتَيْنِ | صَابِرَتَانِ | ثابت قدم رہنے والی | صَابِرَةٌ |
| خَاشِعَاتٍ | خَاشِعَاتٌ | خَاشِعَتَيْنِ | خَاشِعَتَانِ | ڈرنے والی | خَاشِعَةٌ |

اپنے جوابات چیک کیجیے (۳) ہر لائن کے چار نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹیسٹ دوبارہ کیجیے۔

| جَمْع Plural | | تَثْنِيَّة Two / Pair | | مذکر Masculine | مؤنث Feminine |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| نصب جر | رفع | نصب جر | رفع | | |
| مُسْلِمِينَ | مُسْلِمُونَ | مُسْلِمَيْنِ | مُسْلِمَانِ | مُسْلِمٌ | مُسْلِمَةٌ |
| عَابِدِينَ | عَابِدُونَ | عَابِدَيْنِ | عَابِدَانِ | عَابِدٌ | عَابِدَةٌ |
| سَاجِدِينَ | سَاجِدُونَ | سَاجِدَيْنِ | سَاجِدَانِ | سَاجِدٌ | سَاجِدَةٌ |
| نَاطِرِينَ | نَاطِرُونَ | نَاطِرَيْنِ | نَاطِرَانِ | نَاطِرٌ | نَاطِرَةٌ |
| صَائِمِينَ | صَائِمُونَ | صَائِمَيْنِ | صَائِمَانِ | صَائِمٌ | صَائِمَةٌ |
| مُؤْمِنِينَ | مُؤْمِنُونَ | مُؤْمِنَيْنِ | مُؤْمِنَانِ | مُؤْمِنٌ | مُؤْمِنَةٌ |
| ثَيِّبِينَ | ثَيِّبُونَ | ثَيِّبَيْنِ | ثَيِّبَانِ | ثَيِّبٌ | ثَيِّبَةٌ |
| قَانِتِينَ | قَانِتُونَ | قَانِتَيْنِ | قَانِتَانِ | قَانِتٌ | قَانِتَةٌ |
| صَالِحِينَ | صَالِحُونَ | صَالِحَيْنِ | صَالِحَانِ | صَالِحٌ | صَالِحَةٌ |
| صَادِقِينَ | صَادِقُونَ | صَادِقَيْنِ | صَادِقَانِ | صَادِقٌ | صَادِقَةٌ |
| حَافِظِينَ | حَافِظُونَ | حَافِظَيْنِ | حَافِظَانِ | حَافِظٌ | حَافِظَةٌ |
| صَابِرِينَ | صَابِرُونَ | صَابِرَيْنِ | صَابِرَانِ | صَابِرٌ | صَابِرَةٌ |
| خَاشِعِينَ | خَاشِعُونَ | خَاشِعَيْنِ | خَاشِعَانِ | خَاشِعٌ | خَاشِعَةٌ |

اپنے جوابات چیک کیجیے (۱)

ہر لائن کے دو نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹیسٹ دوبارہ کیجیے۔

| اردو | عربی |
|----------------------------|-------------------------|
| وہ (ایک مرد) مسلمان ہے | هُوَ مُسْلِمٌ |
| وہ (دونوں مرد) مسلمان ہیں | هُمَا مُسْلِمَانِ |
| وہ (سب مرد) مسلمان ہیں | هُمْ مُسْلِمُونَ |
| وہ (ایک خاتون) مسلمان ہے | هِيَ مُسْلِمَةٌ |
| وہ (دو خواتین) مسلمان ہیں | هُمَا مُسْلِمَتَانِ |
| وہ (سب خواتین) مسلمان ہیں | هُنَّ مُسْلِمَاتٌ |
| آپ (ایک مرد) مسلمان ہیں | أَنْتَ مُسْلِمٌ |
| آپ (دونوں مرد) مسلمان ہیں | أَنْتُمَا مُسْلِمَانِ |
| آپ (سب مرد) مسلمان ہیں | أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ |
| آپ (ایک خاتون) مسلمان ہیں | أَنْتِ مُسْلِمَةٌ |
| آپ (دو خواتین) مسلمان ہیں | أَنْتُمَا مُسْلِمَتَانِ |
| آپ (سب خواتین) مسلمان ہیں | أَنْتُنَّ مُسْلِمَاتٌ |
| میں (ایک مرد) مسلمان ہوں | أَنَا مُسْلِمٌ |
| ہم (سب مرد) مسلمان ہیں | نَحْنُ مُسْلِمُونَ |
| میں (ایک خاتون) مسلمان ہوں | أَنَا مُسْلِمَةٌ |
| ہم (سب خواتین) مسلمان ہیں | نَحْنُ مُسْلِمَاتٌ |

اپنے جوابات چیک کیجیے (۴)

ہر لائن کے دو نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹیسٹ دوبارہ کیجیے۔

| اردو | عربی |
|------------------------|--------------|
| اس (ایک مرد) کی کتاب | كِتَابُهُ |
| ان (دو مردوں) کی کتاب | كِتَابُهُمَا |
| ان (سب مردوں) کی کتاب | كِتَابُهُمْ |
| اس (ایک خاتون) کی کتاب | كِتَابُهَا |
| ان (دو خواتین) کی کتاب | كِتَابُهُمَا |
| ان (سب خواتین) کی کتاب | كِتَابُهُنَّ |
| آپ (ایک مرد) کی کتاب | كِتَابُكَ |
| آپ (دو مردوں) کی کتاب | كِتَابُكُمَا |
| آپ (سب مردوں) کی کتاب | كِتَابُكُمْ |
| آپ (ایک خاتون) کی کتاب | كِتَابُكِ |
| آپ (دو خواتین) کی کتاب | كِتَابُكُمَا |
| آپ (سب خواتین) کی کتاب | كِتَابُكُنَّ |
| میری کتاب | كِتَابِي |
| ہماری کتاب | كِتَابُنَا |

مشق نمبر ۹، ۸، ۶، ۵، ۳، ۲ کے جوابات جان بوجھ کر فراہم نہیں کئے جا رہے۔

اپنے جوابات چیک کیجیے (۷)

ہر لائن کے دو نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹیسٹ دوبارہ کیجیے۔

| اردو | عربی |
|-----------------------------|------------|
| اس نے اس (ایک مرد) سے کہا | قَالَهُ |
| اس نے ان (دو مردوں) سے کہا | قَالَهُمَا |
| اس نے ان (سب مردوں) سے کہا | قَالَهُمْ |
| اس نے اس (ایک خاتون) سے کہا | قَالَهَا |
| اس نے ان (دو خواتین) سے کہا | قَالَهُمَا |
| اس نے ان (سب خواتین) سے کہا | قَالَهُنَّ |
| اس نے آپ (ایک مرد) سے کہا | قَالَكَ |
| اس نے آپ (دو مردوں) سے کہا | قَالَكُمَا |
| اس نے آپ (سب مردوں) سے کہا | قَالَكُمْ |
| اس نے آپ (ایک خاتون) سے کہا | قَالَكِ |
| اس نے آپ (دو خواتین) سے کہا | قَالَكُمَا |
| اس نے آپ (سب خواتین) سے کہا | قَالَكُنَّ |
| اس نے مجھ سے کہا | قَالَي |
| اس نے ہم سے کہا | قَالَنَا |

اپنے جوابات چیک کیجیے! (۱۰)

ہر لائن کے دو نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹسٹ دوبارہ کیجیے۔

| اردو | عربی |
|--|--|
| وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے، اسے <u>تمہارے</u> لئے تخلیق کیا۔ | هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ |
| تو شیطان نے <u>ان دونوں</u> کو دھوکہ دیا۔ | فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ |
| تو وہ لوگ <u>ان دونوں</u> سے وہ کچھ سیکھنے لگ گئے <u>جس</u> کے ذریعے وہ ایک شخص اور بیوی میں علیحدگی کروادیا کرتے تھے۔ | فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ |
| تو نے <u>ان</u> پر انعام فرمایا نہ کہ وہ <u>جن</u> پر تو نے غضب کیا۔ | أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ |
| وہ <u>آپ</u> سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ انہیں بتائیے کہ <u>ان دونوں</u> میں بڑا گناہ ہے۔ | يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالنَّبِيِّ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ |
| بے شک <u>وہ</u> توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ | إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ |
| تو <u>ان دونوں</u> پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ رجوع کر لیں۔ | فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا |
| <u>وہ</u> آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ | وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ |
| وہ آگ <u>جس</u> کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ | النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ |
| اور <u>ان کے</u> لئے <u>اس</u> میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ | وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ |
| اور جو کچھ <u>آپ</u> سے پہلے نازل ہوا۔ | وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ |
| کیا تم <u>اس</u> کو جو کمتر ہے <u>اس</u> سے تبدیل کرنا چاہتے ہو جو کہ بہتر ہے۔ | أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ |
| <u>اس</u> پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ <u>ان دونوں</u> کی سعی کر لے۔ | فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا |
| وہ بولے: کیا آپ <u>اس</u> میں اسے خلیفہ بناتے ہیں جو <u>اس</u> میں فساد پھیلادے گا۔ | قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا |

| اردو | عربی |
|--|--|
| بے شک تو، تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ | إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ |
| اے آدم! آپ اور آپ کی بیوی اس باغ میں رہیں۔ | يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ |
| تو آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ | فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ |
| وہ بولے، ”اے مریم! یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا۔“ | قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا |
| اور وہ حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے۔ | وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ |
| ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ | فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ |
| اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکا سکتی۔ | وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا |
| جو کچھ زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاری، اس کی مکڑی، اس کا گیہوں، اس کے مسور، اور اس کے پیاز۔ | مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا |
| تو ہم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ | فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا |
| جبکہ ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی۔ | وَمَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ |
| بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ | إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى |
| اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر۔ | خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ |
| اے مریم! بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے اور دنیا کی تمام خواتین میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ | يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ |
| یاد کرو جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت چھوڑ دی جبکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ | إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا |

| اردو | عربی |
|--|--|
| بے شک اللہ <u>آپ</u> کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ <u>اس</u> کا نام مسیح، عیسیٰ بن مریم ہو گا۔ | إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ |
| اے پروردگار! <u>میرے</u> ہاں کہاں سے بچہ ہو سکتا ہے؟ | رَبِّ أَلَيْسَ لِي وَلَدٌ |
| اس نے کہا، ” <u>میں</u> ہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہوں۔“ | قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ |
| وہ <u>انہیں</u> ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ <u>اپنی</u> سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ | وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ |
| <u>آپ</u> میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، | مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ |
| وہ <u>اس</u> میں ہمیشہ رہیں گے۔ | هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ |
| <u>ان دونوں</u> سے بہت سے مرد اور خواتین (دنیا میں) پھیلا دیے۔ | وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً |
| بے شک <u>تو ہی</u> غیب کا جاننے والا ہے۔ | إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ |
| <u>آپ</u> مسلم خواتین ہیں۔ | أَنْتُنَّ مُسْلِمَاتٌ |
| وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ | هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ |
| وہ تمہارا لباس ہیں اور تم <u>ان</u> کا لباس ہو۔ | هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ |
| <u>آپ</u> ایک خاتون ہیں۔ | أَنْتِ امْرَأَةٌ |
| خبردار! بے شک <u>وہی</u> تو فساد پھیلانے والے ہیں۔ | أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ |
| <u>آپ</u> گھروں میں ٹھہری رہیے۔ | وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ |
| <u>ان دونوں</u> میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے۔ | لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ |
| <u>آپ ان</u> سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کیجیے جبکہ <u>آپ</u> مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہوں۔ | وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ |

| اردو | عربی |
|---|--|
| طلاق یافتہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو تین حیض تک روکے رکھیں۔ ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں تخلیق فرمایا ہے۔ | وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ |
| میں تم ہاتھ تم پر اٹھانے والا نہیں ہوں۔ | مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ |
| بے شک ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرنا۔ | إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ |
| اے آدم! آپ انہیں ان کے نام بتائیے۔ | يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ |
| ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ | نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ |
| انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ | وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ |
| ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ | اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ |
| آپ نے ان کی مدد کی۔ | أَنْتِ نَصَرْتِهِنَّ |
| حواریوں نے کہا، ”ہم اللہ (کے دین کے) مددگار ہیں۔“ | قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ |
| تم میں وہ دونوں جو جوڑا (مکروہ فعل) کا ارتکاب کریں، ان دونوں کو سزا دو۔ اگر وہ توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو پھر ان دونوں سے چشم پوشی کرو۔ | وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا |
| میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ | وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ |
| حالت حیض میں خواتین سے الگ رہو۔ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان سے قربت اختیار نہ کرو۔ | فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ |
| بے شک یہ تمہاری چالوں میں سے ایک چال ہے۔ بے شک تمہاری چال بہت بڑی ہے۔ | إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ |

| اردو | عربی |
|--|---|
| میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ | وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ |
| آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ | وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ |
| اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ | وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا |
| بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ | إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ |
| یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں بطور رزق دیا گیا تھا۔ | هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ |
| تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھے انداز میں تمہیں رخصت کر دوں۔ | فَتَعَالَيْنِ أُمَتِّعْكَنَّ وَأُزَوِّجْكَنَّ سِرًّا حَاجِمِيًّا |
| اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ | رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا |
| ہم پر ایسا بوجھ نہ لاد جیسا کہ تو نے اسے ان لوگوں پر لاد ا تھا جو کہ ہم سے پہلے گزرے تھے۔ | وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا |
| اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ | رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ |
| ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، انکار کرنے والی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ | وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ |
| اس کی ہم پر حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔ | أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ |
| تو جائیے آپ اور آپ کا رب ہی جا کر لڑیے۔ | فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا |
| تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لئے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ | فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا |

اپنے جوابات چیک کیجیے! ہر لائن کے دو نمبر ہیں۔ اگر آپ کا اسکور ۸۰ فیصد سے کم ہے تو ٹسٹ دوبارہ کیجیے۔

| اردو | عربی |
|---|---|
| حمیدی نے ہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: | 1. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِي قَالَ: |
| سفیان نے ہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: | 2. حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ: |
| یحییٰ بن سعید انصاری نے ہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: | 3. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: |
| محمد بن ابراہیم التیمی نے ہمیں خبر دی: | 4. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ: |
| کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: | 5. أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِي يَقُولُ: |
| میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ: | 6. سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: |
| میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: | 7. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: |
| ”بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔“ | 8. ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، |
| تو جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو، وہ اسے پالے گا | فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، |
| (اگر اس کی ہجرت) کسی خاتون سے شادی کرنے کے لئے ہو تو اس کی ہجرت اسی (مقصد) کے لئے ہے۔ | أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. “ (بخاری، کتاب الوحي، 1) |

اسلام نے مذہبی آزادی لو بے پناہ اہمیت دی ہے۔ ہر شخص کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اگر کسی شخص کو اس کا معاشرہ یہ آزادی دینے کے لئے تیار نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ مذہبی آزادی کی تلاش میں، اگر ممکن ہو تو کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرے۔ یہ عظیم عبادت ہے لیکن اگر یہ عظیم عبادت بھی دین کے علاوہ کسی اور مقصد سے ہے تو پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں وہ اپنا دنیاوی مقصد ضرور حاصل کر لے گا۔

سبق 6: اسم اور فعل کی اقسام (Types of Nouns and Verbs)

اپنے جوابات چیک کیجیے! ہر لفظ کا ایک نمبر ہے۔ اگر آپ کا اسکور 80 فیصد سے کم ہے تو ٹسٹ دوبارہ کیجیے۔

| عربی | معنی | قسم | عربی | معنی | قسم |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| قَالَ | اس نے کہا | فعل ماضی معلوم | مَظْلُومٌ | جس پر ظلم ہو | إِسْم مفعول |
| خَتَمَ | اس نے مہر لگائی | فعل ماضی معلوم | أَظْلَمُ | سب سے بڑا ظالم | إِسْم تفضیل |
| يَذْهَبُ | وہ دیکھتا ہے | فعل مضارع معلوم | شَاءَ | اس نے چاہا | فعل ماضی معلوم |
| يُتْرَكُ | اس کو چھوڑا جاتا ہے | فعل مضارع مجهول | يَكُونُ | وہ ہوا | فعل مضارع معلوم |
| خُلِقَ | اسے تخلیق کیا گیا | فعل ماضی مجهول | رَاضِيٌ | راضی ہونے والا | إِسْم فاعِلٌ |
| يَجْعَلُ | وہ بناتا ہے | فعل مضارع معلوم | عَاصِيٌ | گناہ گار | إِسْم فاعِلٌ |
| أَمَرَ | اس نے حکم دیا | فعل ماضی معلوم | مَشْهُودٌ | دیکھا ہوا | إِسْم مفعول |
| أَسْجُدُ | سجدہ کرو! | فعل أمر معلوم | أَعْلَمُ | سب سے بڑا عالم | إِسْم تفضیل |
| يُقَالُ | اس سے کہا جاتا ہے | فعل مضارع مجهول | شَهِيدٌ | گواہی دینے والا | إِسْم صفت |
| تَابِعٌ | پیروی کرنے والا | إِسْم فاعِلٌ | نَذِيرٌ | خبردار کرنے والا | إِسْم صفت |
| كَفَرَ | اس نے کفر کیا | فعل ماضی معلوم | لَا تَتْرُكُ | نہ چھوڑو! | فعل نہی معلوم |
| لَبِثَ | وہ رہا | فعل ماضی معلوم | أُعْبَدُ | عبادت کرو! | فعل أمر معلوم |
| كَافِرٌ | کفر کرنے والا | إِسْم فاعِلٌ | إِجْعَلُ | بناؤ! | فعل أمر معلوم |
| مَعْبُودٌ | جس کی عبادت ہو | إِسْم مفعول | مَأْمُونٌ | جسے امن دیا گیا ہو | إِسْم مفعول |
| يُعْبَدُ | اس کی عبادت کی جاتی ہے | فعل مضارع مجهول | لَا تَقُلْ | نہ کہو | فعل نہی معلوم |
| لَا تَعْبُدُ | عبادت نہ کرو | فعل نہی معلوم | أَعْظَمُ | سب سے بڑا | إِسْم تفضیل |
| قَائِلٌ | کہنے والا | إِسْم فاعِلٌ | عَظِيمٌ | بڑا، عظیم | إِسْم صفت |

سبق 6: اسم اور فعل کی اقسام (Types of Nouns and Verbs)

| عربی | معنی | قسم | عربی | معنی | قسم |
|-----------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| قُلْ | کہو! | فعل امر معلوم | مَأْمُورٌ | جسے حکم دیا جائے | إِسْم مفعول |
| مَنْظَرٌ | دیکھنے کی جگہ | إِسْم ظرف | أَسْلَمٌ | سب سے صحیح سالم | إِسْم تفضیل |
| مَشْهَدٌ | مشاہدہ کی جگہ | إِسْم ظرف | أَكْرَمٌ | سب سے معزز | إِسْم تفضیل |
| تَارِكٌ | ترک کرنے والا | إِسْم فاعل | كُنْ | ہو جا | فعل امر معلوم |
| مَخْلُوقٌ | مخلوق | إِسْم مفعول | لَا تَكُنْ | نہ ہو | فعل نہی معلوم |
| جَاعِلٌ | بنانے والا | إِسْم فاعل | يَعْصِي | وہ گناہ کرتا ہے | فعل مضارع معلوم |
| أَمْرٌ | حکم دینے والا | إِسْم فاعل | مَحْفُوظٌ | جس کی حفاظت ہو | إِسْم مفعول |
| أَمِيرٌ | حکمران | إِسْم صفت | عَلِيمٌ | جاننے والا | إِسْم صفت |
| مِسْطَرٌ | لائن لگانے کا آلہ | إِسْم آلہ | أَمِينٌ | دیانت دار | إِسْم صفت |
| مَتَّبِعٌ | جس کی پیروی ہو | إِسْم مفعول | يَشْهَدُ | وہ دیکھتا ہے | فعل مضارع معلوم |
| مَعْبَدٌ | عبادت کی جگہ | إِسْم ظرف | يُنْصِرُ | اس کی مدد کی جاتی ہے | فعل مضارع مجہول |
| أَجْمَلٌ | سب سے خوبصورت | إِسْم تفضیل | أَنْصِرُ | مدد کرو | فعل امر معلوم |
| شَاهِدٌ | گواہی دینے والا | إِسْم فاعل | كُتِبَ | اسے لکھا گیا | فعل ماضی مجہول |
| عَبْدٌ | اسے پوجا گیا | فعل ماضی مجہول | مَكْتُوبٌ | لکھی ہوئی چیز | إِسْم مفعول |
| أَمَنٌ | اس نے امن دیا | فعل ماضی معلوم | كَاتَبٌ | لکھنے والا | إِسْم فاعل |
| مِفْتَاحٌ | کنجی، چابی | إِسْم آلہ | عَادِلٌ | عدل کرنے والا | إِسْم فاعل |
| مَقْتَلٌ | قتل کی جگہ | إِسْم ظرف | مَفْتُوحٌ | کھلا ہوا | إِسْم مفعول |
| عَاصِمٌ | عصمت والا | إِسْم فاعل | يُكْتَبُ | اسے لکھا جاتا ہے | فعل مضارع مجہول |